

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن اور امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین 1573 نے ایک مشترکہ معاہدہ طے کر لیا ہے

برامپٹن، آن (10 جولائی 2019) – سٹی آف برامپٹن اور امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین (ATU) لوکل 1573 نے ایک نیا مشترکہ معاہدہ طے کر لیا ہے جو 1 جولائی 2019 – 30 جون 2024 تک مؤثر با عمل رہے گا۔ کونسل نے آج کی اپنی میٹنگ کے دوران اس نئے معاہدہ کی منظوری دے کر اس کو حتمی شکل دے دی ہے۔

برامپٹن ٹرانزٹ جو 1976 سے شہر کی خدمت میں مصروف عمل ہے، کا شمار کینیڈا کی نقل و حرکت کی تیز ترین بڑھوتری کی حامل سروسز میں ہوتا ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے سال 2018 میں 31 ملین سے زیادہ مسافروں کو ان کی منزلوں تک پہنچایا ہے اور یہ مسافروں کو برامپٹن کی بڑی تفریح گاہوں اور منازل تک پہنچانے کے علاوہ گریٹر ٹورانٹو ایریا (GTA) کے عوامی نقل و حمل کے ذرائع سے بھی مربوط کرتی ہے۔

### مسافروں کی شماریات:

- دوران ہفتہ کے اوسط مسافر: \*116,000
- ہفتہ وار اوسط مسافر: \*671,000
- ماہوار اوسط مسافر: \*\*2,603,256

\*ستمبر، اکتوبر اور نومبر 2018 کی اوسط

\*\* 2018 سے 12 مہینوں کی اوسط

### اقتباسات

"برامپٹن ٹرانزٹ کا شمار ملک میں سب سے تیزی سے بڑھنے والے نقل و حرکت کے نظاموں میں ہوتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم شہر کی گل وقتی اور جزوقتی ملازمین کی یونینز کے ساتھ ایک معاہدہ کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ برامپٹن ٹرانزٹ پر ہر روز 110,000 سے زیادہ مسافر سفر کرتے ہیں اور اس معاہدہ کی وجہ سے ان کا سفر ہموار طور پر جاری رہے گا۔ اس معاہدہ کو طے کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والے تمام لوگوں کی کاوشوں اور برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ایک مثبت سوچ رکھنے پر میں شکر گزار ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ٹرانزٹ کی ترجیح ہمارے لوگ ہیں اور خاص کر ہمارے مسافروں اور ملازمین کی حفاظت ہمارے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم اپنی سروسز کو خوب سے خوب تر بنانے اور اپنے مسافروں کو نقل و حرکت کا ایک محفوظ، قابل بھروسہ اور معیاری نظام فراہم کرنے کے لیے اگلے پانچ سال کے دوران امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین 1573 کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں۔"

- ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ

"امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین 1573 اس معاہدہ پر نہایت خوش ہے۔ ہم اپنے مسافروں اور رہائشیوں کو نقل و حرکت کا ایک محفوظ اور قابل بھروسہ نظام فراہم کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔"

- روب گوٹٹی، پریزیڈنٹ، امیلگمیٹڈ ٹرانزٹ یونین (ATU) لوکل 1573

-30-

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)